

تیز حقائق نامے بابت

اور Child Health Plus، Medicaid Essential Plan میں اندراج کرانے والوں کے لیے تبدیلیاں آرہی ہیں



کیا آپ یا آپ کے خاندان کے کسی رکن کے پاس فی الحال **New York State Medicaid** یا **Child Health Plus** یا **Essential Plan** کی معرفت صحت کوریج ہے؟

نیویارک اسٹیٹ جلد ہی اہلیت کی جانچ دوبارہ شروع کرے گی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اندراج کرانے والے اب بھی ان پروگراموں کے لیے اہل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے صحت بیمہ کی یا اپنے فیملی ممبرز کے صحت بیمہ کی تجدید کرنے کی کارروائی کرنی پڑ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کی آمدنی میں COVID-19 کی وبا شروع ہونے سے پہلے ہی بہت زیادہ تبدیلی ہو چکی ہے، تو یہ ممکن ہے کہ آپ کو صحت بیمہ میں اندراج شدہ رہنے کے لیے اس معلومات کی اطلاع NY State of Health کو دینی پڑے۔

یہ وہ چند چیزیں ہیں جو آپ تیار ہونے کے لیے ابھی کر سکتے ہیں:

1 ٹیکسٹ انتباہات کے لیے سائن اپ کریں۔

NY State of Health کی جانب سے SMS/MMS ٹیکسٹ انتباہات موصول کرنے کے لیے سائن اپ کریں تاکہ آپ صحت بیمہ کی اہم اپ ڈیٹس، بشمول اپنی کوریج کی تجدید کرنے کا وقت آنے پر اطلاع حاصل کرنے سے محروم نہ رہیں۔ سبسکرائب کرنے کے لیے، **START** لکھ کر **1-866-988-0327** پر ٹیکسٹ کر دیں۔

2 یقینی بنائیں کہ آپ کا پتہ اپ ٹو ڈیٹ ہو۔

یقینی بنائیں کہ NY State of Health یا آپ کے مقامی Medicaid کے دفتر کے پاس آپ کا موجودہ ڈاک کا پتہ، فون نمبر اور ای میل پتہ موجود ہو تاکہ وہ آپ کے صحت بیمہ کے بارے میں آپ سے رابطہ کر سکیں۔

اگر آپ کو NY State of Health کے ذریعے بیمہ حاصل ہے تو آپ:

• 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220) پر کال کر سکتے ہیں

• nystateofhealth.ny.gov پر اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کر سکتے ہیں

• <https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor> پر معاون

تلاش کر سکتے ہیں

اگر آپ کو اپنی کاؤنٹی کے Medicaid کے دفتر کے ذریعے یا نیویارک سٹی کی انسانی وسائل کی انتظامیہ (Human Resources Administration, HRA) کے ذریعے Medicaid حاصل ہے تو، اپنے پتے اور رابطہ کی معلومات کے ساتھ اپنے مقامی دفتر سے رابطہ کریں۔

3 باخبر رہیں۔

مزید جاننے کے لیے <https://info.nystateofhealth.ny.gov/>

COVID-19-Changes ملاحظہ کریں۔ NY State of Health اس صفحہ کو نئی

معلومات کے ساتھ باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کرے گی۔

NY State of Health نیو یارک کا باضابطہ ہیلتھ پلان مارکیٹ پلیس ہے۔

اگر آپ کی عمر 19 سال یا اس سے زیادہ ہے اور آپ نیو یارک اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے وہ صحت بیمہ ہم تلاش کر سکتے ہیں جس کے آپ متحمل ہو سکتے ہیں۔

میں کس طرح اندراج کراؤں؟

nystateofhealth.ny.gov

یا

1-855-355-5777

TTY 1-800-662-1220:

یا

آپ کے گھر یا دفتر کے قریب سند یافتہ

معاون سے مفت شخصی مدد کے ذریعے۔

NY State of Health قابل اطلاق وفاقی دیوانی حقوق کے قوانین اور ریاستی قوانین کی تعمیل کرتا ہے اور نسل، رنگ، جنس، عمر، قومی اصلیت، مسلک/مذہب، ازدواجی/کنبہ جاتی حیثیت، گرفتاری کے ریکارڈ، مجرمانہ سزا یا (سزا یا بیوں)، صنفی شناخت، صنفی رجحان، ثانوی جینیاتی خصوصیات، فوجی حیثیت، خانگی تشدد کے متاثر کی حیثیت اور/یا انتقام کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کرتا ہے۔